

YRDSB Virtual School ٹرانسفر فارم

معزز خاندان، (فیملیز)

ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کے بچوں نے مارچ کی چھٹیاں پر لطف اور محفوظ انداز میں گزاری ہوں گی۔ ہم فعال طور پر اگلے تعلیمی سال کے لیے منصوبہ بندی کر رہے ہیں، اور جب کہ زیادہ تر طلباء اب ذاتی طور پر (آمنے سامنے) اسکول جا رہے ہیں، تو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ کچھ خاندان اپنے بچے کے لیے آن لائن تعلیم جاری رکھنے کے خواہشمند ہو سکتے ہیں۔ اونٹاریو (Ontario) کی حکومت نے حال ہی میں اعلان کیا ہے کہ اسکول بورڈز کے لیے 2022-2023 کے تعلیمی سال کے لیے طلباء کو ورچوئل لرننگ کی پیشکش کرنا جاری رکھنا، ایک امر لازم ہے۔ اسی طرح سے، 2022-2023 کے تعلیمی سال کے لیے YRDSB ایلیمنٹری ورچوئل اسکول (EVS) اور سیکنڈری ورچوئل اسکول (SVS) کے ذریعے آمنے سامنے (F2F) اور ورچوئل لرننگ فراہم کر رہا ہے۔ آئندہ سال ہمارے منصوبوں میں ہائبرڈ لرننگ شامل نہیں ہے۔

اگر آپ کا بچہ اگلے سال بذات خود (آمنے سامنے) اسکول جائے گا تو کسی کارروائی کی ضرورت نہیں ہے۔

اگر تعلیمی سال 2022-2023 میں چاہتے ہیں کہ آپ کا ورچوئل اسکول میں شرکت کرے، یا ہمارے ورچوئل اسکول کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں، تو براہ مہربانی مزید پڑھیں۔

ایلیمنٹری ورچوئل اسکول

آن لائن اسکول میں شرکت کرنے والے طلباء:

- طلباء کو روزانہ کا شیڈول ملے گا جس میں اسکول کے ایک عام دن کے بعد چھٹی (بریک) اور دوپہر کے کھانے کا وقت شامل ہے۔
- تدریس و تعلیم، اونٹاریو (Ontario) کے نصاب مطابق ہو گی اور معمول کے کلاس روم کی طرح تدریسی نمونوں کے مطابق ہو گی جیسا کہ چھوٹے اور بڑے گروپ کے سیکھنے کے مواقع، طلباء اپنے استاد اور ہم جماعت کے ساتھ مشغول ہوں۔
- کنڈر گارڈن کے طلباء کے پاس روزانہ کے 300 منٹ کے ریئل ٹائم میں سے کم از کم 180 منٹ ہوں گے، کا تفویض شدہ ابتدائی بچپن معلم (Designated Early Childhood Educator (DECE)) کے ساتھ لائیو (ہم وقت ساز) سیکھنے کا وقت ہوگا۔ کوئی بھی باقی وقت غیر مطابقت پذیر (لائو نہیں) سیکھنے والا ہوگا۔
- گریڈ 1 سے 8 تک کے طلباء روزانہ 300 منٹ کے ریئل ٹائم میں سے کم از کم 225 منٹ ہوں گے، لائیو لرننگ (ہم وقت ساز) سیکھنے کا وقت ہوگا۔ کوئی بھی باقی وقت غیر مطابقت پذیر (لائو نہیں) سیکھنے والا ہوگا۔
- اگر ممکن ہو تو طالب علم/خاندان کی دلچسپی اور عملے کی ضروریات کی بنیاد پر فرانسیسی امرشن پروگرامنگ -2022 میں فراہم کی جا سکتی ہے۔ جب تک منتقلی کا فارم بند نہیں ہوتا، ہم ضمانت نہیں دے سکتے کہ یہ اختیاری پروگرام فراہم کیا جائے گا۔ اس صورت میں کہ فرانسیسی امرشن عملی طور پر دستیاب نہ ہو، آپ کا بچہ اگلے سال (2023-2024) میں آمنے سامنے FI پروگرام میں دوبارہ داخل ہو سکے گا۔
- جن طلباء کو انگریزی بطور سیکنڈ لینگویج (ESL) پروگرامنگ کی ضرورت ہوتی ہے انہیں انگریزی زبان کی معاونت تک رسائی حاصل ہوگی۔
- خصوصی تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کی معاونت کو دونوں تعلیمی طریقہ کار میں ترجیح حاصل ہے۔ دونوں طریقہ کار میں خصوصی تعلیمی عملہ طلباء کا تعاون جاری رکھے گا۔ ستمبر میں، IEPs والے طلباء کے خاندانوں سے ان کے بچے کے IEP کے بارے میں مشاورت کے لیے ورچوئل اسکول کے ذریعے رابطہ کیا جائے گا۔ سپیشل ایجوکیشن کمیونٹی کلاسز میں طلباء کے خاندانوں سے ان کے ورچوئل اسکول، گوگل کلاس روم اور آن لائن میٹنگ کی تفصیلات کے بارے میں رابطہ کریں گے۔

مزید معلومات کے لئے، براہ مہربانی ہمارے ورچوئل اسکول کے عمومی سوالنامہ برائے فیملیز وزٹ کریں۔

سیکنڈری ورچوئل اسکول

- گریڈ 9-12 کے طلباء کو روزانہ ایک شیڈول ملتا ہے جو کہ چار 75 منٹ کے وقفوں اور ایک عام دوپہر کے کھانے کے دورانیے کے عام چار پیریڈ کے شیڈول کے مطابق ہوتا ہے۔
- ہر 75 منٹ کی مدت میں کم از کم 60 منٹ لائیو (مطابقت پذیر) لرننگ/پڑھائی شامل ہوگی۔

- تدریس و تعلیم، اونٹاریو (Ontario) کے نصاب مطابق ہو گی اور معمول کے کلاس روم کی طرح تدریسی نمونوں کے مطابق ہو گی جیسا کہ چھوٹے اور بڑے گروپ کے سیکھنے کے مواقع، طلباء اپنے استاد اور ہم جماعت کے ساتھ مشغول ہوں۔
 - لازمی کورسز گریڈ 9-12 سے پیش کیے جاتے ہیں اور گریڈ 12-9 سے محدود تعداد میں اختیاری کورسز دستیاب ہیں۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے، کسی بھی اسکول کی طرح، طلباء کی طلب جاری کورس کی منصوبہ بندی کو متاثر کرے گی اور ہو سکتا ہے کہ کچھ کورسز پیش نہ کیے جا سکیں۔ سیکنڈری ورچوئل اسکول اسی کورس کی منصوبہ بندی اور شیڈولنگ کی ٹائم لائنز پر عمل کرے گا جیسا کہ اسکول کے ایک عمومی تعلیمی سال کیلنڈر میں ہوتی ہیں۔
 - خاندان اور طلباء کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ **ٹانوی ورچوئل اسکول کورس کیلنڈر** کا جائزہ لیں چونکہ اختیاری خصوصی پروگرامنگ دستیاب نہیں ہے، بشمول ایڈوانس پلیسمنٹ، انٹرنیشنل بکلوریٹ، SHSM، ARTS، فرانسیسی امرشن۔ تمام اسپیشل ایجوکیشن کلاسز گریڈ 9 سے گریڈ 12 تک دستیاب ہیں۔
 - خصوصی تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کی **معاونت** کو دونوں تعلیمی طریقہ کار میں ترجیح حاصل ہے۔ دونوں طریقہ کار میں خصوصی تعلیمی عملہ طلباء کا تعاون جاری رکھے گا۔ ستمبر میں، IEPs والے طلباء کے خاندانوں سے ان کے بچے کے IEP کے بارے میں مشاورت کے لیے ورچوئل اسکول کے ذریعے رابطہ کیا جائے گا۔ اسپیشل ایجوکیشن کمیونٹی کلاسز میں طلباء کے خاندانوں سے ان کے ورچوئل اسکول، گوگل کلاس روم اور آن لائن میٹنگ کی تفصیلات کے بارے میں رابطہ کریں گے۔
 - 9 سے 12 گریڈ تک طلباء کورس کے بارے میں اپنے **مائی پاتھ وے پلانر اکاؤنٹ** بورڈ لاگن کے ذریعہ مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ تمام کورس دستیاب نہیں ہوں گے اور یہ کہ تمام کورسز سارے عرصے میں پیش نہیں کیے جاتے ہیں کیونکہ کورس کی پیشکشیں متعدد تبدیلیوں پر منحصر ہوتی ہیں جن میں طالب علم کی مانگ بھی شامل ہے۔
 - ثانوی کے بعد کے اختیارات کے بارے میں سوالات رکھنے والے طلباء اور خاندانوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ اپنے موجودہ اسکول کے گائیڈنس اسٹاف سے رابطہ کریں۔ تمام طلباء کسی بھی کورس کے انتخاب کے پاتھ وے کے سوالات کے بارے میں بات کرنے کے لیے گائیڈنس کے عملے کے ساتھ اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔
 - جیسا کہ وزارت نے واضح کیا ہے، ورچوئل اسکولوں میں لیے گئے کورسز کو گریجویٹیشن کے لیے درکار دو ای لرننگ کریڈٹس کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تمام خاندانوں کو اس تقاضا کے بارے میں مزید معلومات اس موسم بہار میں بتائی جائیں گی۔
 - ہم نصابی کلبوں اور تقریبات کو عملی طور پر پیش کیا جائے گا۔
 - یونیورسٹی یا کالج میں درخواست دینے والے گریجویٹ طلباء ایسا YRDSB کے سیکنڈری ورچوئل اسکول کے ذریعے کریں گے اور اسکول کا نام "YRDSB's Secondary Virtual School" ڈپلومہ پر لکھا جائے گا۔
 - گریجویٹیشن کرنے والے طلباء سیکنڈری ورچوئل اسکول گریجویٹیشن میں شرکت کر سکیں گے۔
- مزید معلومات کے لئے، براہ مہربانی ہمارے **ورچوئل اسکول کے عمومی سوالنامہ برائے فیملیز وزٹ** کریں۔

ورچوئل اسکول ٹرانسفر فارم

ورچوئل اسکول کی منتقلی کا فارم یارک ریجن ڈسٹرکٹ اسکول بورڈ کے طلباء کے لیے ہے جو پورے 2022-2023 تعلیمی سال کے لیے ایلیمنٹری یا سیکنڈری ورچوئل اسکول میں ٹرانسفر ہونا چاہتے ہیں اس فارم والدین/سرپرستوں کو مکمل کرنا ہے اور YRDSB ورچوئل اسکول میں ٹرانسفر کی درخواست کرنے والے ہر بچے کے لیے ایک علیحدہ ٹرانسفر فارم کو مکمل کرنا چاہیے۔ اس ورچوئل اسکول ٹرانسفر جمع کرنے سے پہلے براہ کرم اپنے بچے سے بات کریں۔

جن فیملیز میں فیصلہ سازی کی ذمہ داریاں مشترکہ ہیں انہیں اس فارم کو مکمل کرنے سے پہلے ایک معاہدے پر آنا ہوگا۔ اس لرننگ ماٹل کا انتخاب کرتے وقت، طلباء اور خاندانوں کو پورے تعلیمی سال کے لیے منتخب ماٹل میں رہنے کی توقع رکھنی چاہیے۔ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ اس وقت یہ فیصلہ کرنا خاندانوں کے لیے مشکل ہو سکتا ہے، تاہم یہ معلومات ایک مؤثر اور معاون اسکول کا ٹائم ٹیبل بنانے کے لیے ضروری ہے۔

اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ/آپ کا بچہ 2022-2023 تعلیمی سال کے لیے ابتدائی یا ثانوی ورچوئل اسکول میں شرکت کرے تو براہ کرم درج ذیل **ورچوئل اسکول ٹرانسفر فارم** کو پُر کریں۔

اہم بات: ورچوئل اسکول ٹرانسفر فارم 31 مارچ سے 7 اپریل تک کھلا رہے گا۔

ورچوئل اسکول ٹرانسفر فارم جمع کرنے کے بعد، آپ کو ایک ای میل تصدیق موصول ہو گی کہ آپ نے 2022-2023 تعلیمی سال کے ورچوئل لرننگ کے لیے ورچوئل اسکول ٹرانسفر فارم جمع کرا دیا ہے۔ اگر آپ کو اپنی تصدیقی ای میل موصول ہونے پر کوئی نقص/خرابی نظر آتی ہے، تو براہ کرم 7 اپریل 2022 کو بند ہونے سے پہلے ایک نیا ورچوئل اسکول ٹرانسفر فارم دوبارہ جمع کرائیں۔

اہم بات: تازہ ترین جمع کرنے کو پورے 2022-2023 تعلیمی سال کے لیے آپ کے حتمی فیصلے کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔

اہم بات: کسی طالب علم کو پورے 2022-2023 تعلیمی سال کے لیے آمنے سامنے حاضر ہونے کے لیے کچھ جمع کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ خاندانوں کے اسکول واپسی کے بارے میں بہت سے سوالات ہیں، اور ہم آپ کے ساتھ معلومات کا اشتراک کرنا جاری رکھیں گے جیسے ہی یہ دستیاب ہو گی اور معلومات، ویڈیوز اور وسائل کا اپنے بورڈ کی ویب سائٹ www.yrdsb.ca/school-reopening پر اشتراک کرنا جاری رکھیں گے۔

**اس فارم پر جمع کی گئی معلومات کو ایجوکیشن ایکٹ 1990، c E.2, s.8.1، کے اختیار کے تحت جمع کیا گیا ہے اور اسے بارک ریجن ڈسٹرکٹ اسکول بورڈ، ہمارے اسکولوں کی عام انتظامیہ کے لیے استعمال کرے گا۔ اس فارم پر جمع کی گئی تمام ذاتی معلومات میونسپل فریڈم آف انفارمیشن اینڈ پروٹیکشن آف پرائیویسی ایکٹ، آر ایس او، 1990، سی کے مطابق برقرار رکھی جائیں گی۔ S.29 .M.56. اس فارم پر معلومات جمع کرنے کے بارے میں کوئی بھی سوالات research.services@yrdsb.ca پر بھیجے جا سکتے ہیں۔